

NEWYORK – PRESBYTERIAN/QUEENS HOSPITAL

چیریٹی کیئر کی پالیسی کا خلاصہ

NewYork-Presbyterian/Queens کے پاس ایسے مریضوں کی اعانت کرنے کے لیے ایک دیرپا پالیسی ہے جنہیں ہمارے ہسپتال میں نگہداشت صحت کی خدمات موصول ہوتی ہیں اور جنہیں مالی امداد درکار ہے، جس میں عمر، صنف، نسل، قومی نژاد، سماجی و معاشی یا ترک وطن کی حیثیت، جنسی رجحان یا مذہبی وابستگی کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔

اگر NEW YORK – PRESBYTERIAN/QUEENS (باسپٹل) کے تنہا آپ پر مالی جوابدہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ ادائیگی کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں تو NYP/QUEENS کے پاس چیریٹی کیئر کی ایک پالیسی ہے جو اہل قرار یافتہ مریضوں کی اعانت کر سکتی ہے۔

مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آیا میں چیریٹی کیئر کے لیے اہل قرار پاتا ہوں؟

- نیو یارک اسٹیٹ کے باشندے طبی لحاظ سے لازمی ہنگامی خدمات کے لیے چیریٹی کیئر کے لیے اہل قرار پا سکتے ہیں۔ ہسپتال کی بنیادی خدمت کے علاقے کے مکین طبی لحاظ سے ضروری غیر ہنگامی خدمات کے لیے چیریٹی کیئر کے اہل قرار پا سکتے ہیں۔
- NewYork-Presbyterian/Queens کے لیے، خدمت کا بنیادی علاقہ New York City اور Nassau County کے پانچوں بورو (کاؤنٹیز) پر مشتمل ہے۔
- جو مریض مذکورہ بالا معیار پر پورا اترتے ہیں اور ان کی آمدنی ذیل میں دکھائی گئی رقم سے کم ہو وہ چیریٹی کیئر کے اہل ہو سکتے ہیں۔

آمدنی (موثر 2019/1/1)	خاندان یا گھرانے میں افراد
49,960\$	1
67,640\$	2
85,320\$	3
103,000\$	4
17,680\$	F ہر ایک اضافی فرد کے لیے، شامل کریں:

- چیریٹی کیئر کی اہلیت کا تعین عام طور پر چیریٹی کیئر کی درخواست کی تکمیل پر کیا جائے گا۔
- یہ پالیسی معالجین یا ان دیگر فراہم کنندگان کے چارجز پر لاگو نہیں ہوتی ہے جو اپنی خدمات کے لیے آزادانہ طور پر بل بھیجیں گے۔ ہسپتال کی کلینک کے فراہم کنندگان کا چیریٹی کیئر پالیسی میں احاطہ کیا گیا ہے۔

مجھے کس قسم کی اعانت مل سکتی ہے؟

- ہسپتال ہنگامی یا دیگر طبی لحاظ سے لازمی نگہداشت کے لیے بیمہ رکھنے والے افراد کو عام طور پر جتنے کا بل بھیجا جاتا ہے (amounts generally billed, AGB) اس سے زیادہ چارج اپنے چیریٹی کیئر پروگرام کے لیے اہل مریضوں پر نہیں کریں گے۔ دیگر تمام نگہداشت کے لیے، کسی اہل فرد پر ہسپتال کے مجموعی چارجز سے زیادہ چارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہسپتال متوقع طریقہ استعمال کر کے AGB کا حساب کرتا ہے اور اس شرح کی بنیاد نیو یارک اسٹیٹ کی فیس برائے خدمت کی Medicaid کی شرحوں پر ہوتی ہے۔
- اہل مریضوں کے لیے قسط وار ادائیگی کا منصوبہ دستیاب کرایا جائے گا۔
- آپ کی درخواست جمع ہو جانے پر، آپ کسی بل کو تب تک نظر انداز کر سکتے ہیں جب تک ہم اس درخواست پر فیصلہ صادر نہ کر دیں۔

میں کس طرح درخواست دے سکتا یا اپنے سوالوں کا جواب پا سکتا ہوں؟

- چیریٹی کیئر کی پالیسی، خلاصہ اور درخواست ہمارے بھرتی کرنے والے دفاتر (Admitting Offices) میں یا www.nyp.org/queens پر Charity Care (چیریٹی کیئر) بٹن کے تحت انگریزی اور دوسری زبانوں میں دستیاب ہے۔
- چیریٹی کیئر اور درخواست کی کارروائی کی اہلیت کے سلسلے میں معلومات بھرتی کرنے والے دفاتر سے یا ہمیں **(866) 252-0101** پر **ٹول فری** کال کرنے پر دستیاب ہیں۔